

not to be republished

حصہ ششم

مختصر مضمون


اردو میں مختصر مضمون نگاری کا آغاز سر سید سے ہوتا ہے۔ انہوں نے اس صنف کو سماجی اصلاح کے ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا۔ اس کے بعد مضمون نگاری بھی ایک صنف کی حیثیت سے رانج ہو گئی۔ سماجی موضوعات کے علاوہ علمی، ادبی، فلسفیانہ، سائنسی، سوانحی اور دیگر موضوعات پر بھی مضامین لکھے گئے ہیں۔ حآلی، شبلی، محمد حسین آزاد، نذیر احمد، میر ناصر علی، نیاز فتح پوری، رشید احمد صدیقی، مرزا فرحت اللہ بیگ، ابوالکلام آزاد، خواجہ غلام السید ین وغیرہ اردو کے اہم مضمون نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ مختصر مضمون کی ایک شکل انشائی کھلاتی ہے۔ انشائی اور مضمون میں کوئی خاص فرق نہیں۔ لیکن عام طور پر انشائی میں مزاج اور طنز یا خوش مزاج کا رنگ ہوتا ہے اور انشائی نگار اکثر بتیں اپنے حوالے سے یا اکثر اپنے ہی بارے میں بیان کرتا ہے۔



5286CH01

میگھالیہ

اوپنچے نیچے خوبصورت پہاڑی سلسلے، گہری کھائیاں اور ان کے درمیان راگ الاتی، آڑی ترچھی مل کھاتی ہوئی ندیاں، اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے گرتے ہوئے آبشار سیاہوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ یہ خوبصورت صوبہ "میگھالیہ" کہلاتا ہے جسے 2 اپریل 1970 میں آسام کے جنوبی حصہ گارو، کھاسی اور جنیتیا پربتوں کے علاقوں کو الگ کر کے تشکیل دیا گیا ہے۔ اس کے شمال میں صوبہ آسام اور جنوب مغرب میں بگلمہ دلش ہے۔ اس کا مل رقبہ بائیس ہزار پانچ سو مریع کلومیٹر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً دس لاکھ ہے۔



مال بھر یہ صوبہ بادلوں سے ڈھکا رہتا ہے۔ اسی لیے اسے میگھالیہ (بادلوں کا گھر) کہتے ہیں۔ یہاں چھوٹے اور نیچے پہاڑی سلسلے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ زمین بٹھاری اور اوپنچی پنجی ہے۔ یہاں کا سب سے اوپنچا بٹھاری علاقہ "شیلا آنگ پیک" کہلاتا ہے۔ یہ چھے ہزار پانچ سو فٹ بلند ہے۔ برہم پتھر یہاں کی سب سے بڑی ندی ہے اور اُس میں ملنے والی دوسری بیسیوں

ندیاں اس علاقے میں بہتی ہیں۔ کہیں کہیں گھاس کے میدان اور سڑی ٹھی نما کھیت نظر آتے ہیں۔ شیلانگ یہاں کے ایک دیوتا کا نام ہے۔ اُسی کے نام پر اس شہر کا نام شیلانگ رکھا گیا ہے۔ شیلانگ دیوتا کو ناج اور گانے کا بہت شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے باشندے آج بھی رقص و سرود کے دلدادہ ہیں۔ شیلانگ کو پہاڑوں کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر قدیم وجدید تہذیب کا سعّم ہے۔ یہاں بڑی عمارتوں کے ساتھ چھوٹیں بھی جا بجا نظر آتی ہیں۔ انگریزی بس کے ساتھ آدمی بسیوں کی رنگین اور ڈھلی ڈھالی پوشائیں بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔ کرکٹ، پولو اور گولف یہاں کے پسندیدہ کھیل ہیں۔ ہفتہ کے دن یہاں گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے۔ یہاں کا ”بٹینیکل پارک“ بہت مشہور ہے جس میں دنیا بھر کے تقریباً سبھی قسم کے پودے لگائے گئے ہیں۔ اسی کے قریب ”دارِ ایک“ نام کی ایک جھیل ہے جو گھوڑے کی نال سے مشابہ ہے۔

یہاں کے آدمی بھائی اور گارو قبیلے کے ہیں۔ یہ لوگ نسلًا منگولوں ہیں۔ گول چہرہ، چپٹا سر، چوڑی پیشانی چہرے کی ہڈیاں اُبھری ہوئیں، چوڑی ناک، آنکھیں چھوٹی اور رنگ پیلا ہوتا ہے۔ مردوں کے چہرے پر بال براۓ نام ہوتے ہیں۔

آبادی کا زیادہ حصہ عیسائی مذہب کا پیرو ہے جو اپنے قدیم رسم و رواج اور طور طریقے اپنائے ہوئے ہے۔

یہاں عورت کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ وراشت کی حق دار صرف عورت ہی ہے۔ وہ گھر کی مالکن بھی ہوتی ہے۔ خاندان اُسی کے نام سے چلتا ہے۔ مرد اُس کا مددگار یا صلاح کار ہوتا ہے۔ عورت کے مرنے کے بعد جائیداد لڑکوں میں سے سب سے چھوٹی لڑکی کو دی جاتی ہے۔ بازاروں میں بھی خرید و فروخت کا کام عورتیں ہی کرتی ہیں۔ یہ پیچھے پر اپنے بیچ کو پکڑے سے باندھے ہوئے سر پر بوجھ اٹھائے نظر آئیں گی۔ یہاں ایک کہاوت عام ہے۔ ”قوم عورت سے ہی پیدا ہوئی ہے۔“ اسی لیے یہاں عورت کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے۔ صوبے میں کھائی اور گارونام کے دو قبیلے ہی خاص ہیں اور انہیں کے نام سے یہاں جانے جاتے ہیں۔ آدمی بسیوں کے رسم و رواج میں کچھ فرق بھی ہے۔ شادی کے بعد شوہر کو بیوی کے گھر رہنا پڑتا ہے اور دو تین پچھوں کے بعد ہی وہ اپنا مکان بنانے لگتا ہے۔

ایک قبیلے میں یہ دستور ہے کہ شادی سے پہلے تمام لڑکے ”نوک پاٹھے“ نام کے ایک بڑے مکان میں رہتے ہیں۔ شادی کے لیے رسم یہ ہے کہ شادی کے خواہش مند کئی لڑکے، لڑکی کے یہاں جمع ہو کر اپنی اپنی بہادری کے کارنا میں بیان کرتے ہیں۔ یہ سلسہ اُس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک لڑکی کسی لڑکے کا انتخاب نہیں کر لیتی۔ اُسی کے بعد لڑکے اور لڑکی کو انکوٹھی پہنا دی جاتی ہے۔ پھر پوچا اور منتروں کے پڑھنے کے بعد شادی کر دی جاتی ہے۔

دوسرے طریقہ یہ ہے کہ لڑکے کا پیغام اڑکی کے گھر والوں کو دیا جاتا ہے۔ پھر اچھے شگون کے بعد لڑکے کا ہاتھ اڑکی کا ماموں پکڑ کر پچاری کے سامنے کر دیتا ہے اور تین مچھلیوں کے فرش پر شراب ڈالی جاتی ہے پھر شادی کر دی جاتی ہے۔ یہاں زیادہ بارش ہونے کے سبب گھنے جنگل ہیں۔ یہاں کے لوگ شکار کے بھی شوقیں ہیں۔ شکاری ٹوٹوں کو ساتھ لے کر شکار کھلیتے ہیں۔ شکار میں تیر کمان یا پھندے کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک درخت کی چھال کے رس کو ندی میں ڈال کر مچھلیوں کا شکار کیا جاتا ہے۔ اس سے مچھلیاں مر کر اوپر آ جاتی ہیں۔

یہاں نشانے بازی کے مقابلے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ایک گاؤں کے نشانے باز دوسرے گاؤں کے نشانے بازوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک نج اور کچھ بخ مقرر کیے جاتے ہیں جن کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہوتا ہے۔ شور و غل کے ساتھ نشانے بازی شروع ہوتی ہے۔ جس پارٹی کے نشانے زیادہ صحیح ہوتے ہیں وہ فتح مند سمجھی جاتی ہے۔

صوبے میں عام طور پر چاول، گوشت، مچھلی، آلو اور صابو دانے کے درخت کے گودے کا آٹا کھایا جاتا ہے۔ غیر عیسائی کھاسی باشندے دودھ اور اس سے بنی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے۔ پورے صوبے میں چھالا بہت شوق سے کھائی جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ بارش والا علاقہ چیراپنجی اسی صوبے میں ہے۔ یہاں آب و ہوا مرطوب ہونے کی وجہ سے پچھل، ملیر یا اور ہیضے کی دباں میں عام ہیں۔

کھاسی کے ہر گاؤں میں پنچایت ہوتی ہے جو آپس کے جھگڑے چکاتی ہے۔ بخ اور گواہوں کے بیان پر فیصلہ دے دیا جاتا ہے۔

گارو قبیلے کو ”آچک“، بھی کہتے ہیں یہاں کے لوگ اپنے مکانوں میں کھڑکیاں نہیں بناتے۔ کھڑکی بنانے پر جرم آنے دینا پڑتا ہے۔ اس علاقے میں کپاس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ لوگ اپنے کپڑے خود ہی بننتے اور نگتے ہیں۔ دو گاؤں کے درمیان ایک سرائے ہوتی ہے۔ جسے ”آلدا“ کہتے ہیں۔ یہاں مسافروں کو ہر قسم کی سہولت مفت فراہم کی جاتی ہے۔ اس صوبے میں عام طور پر سیڑھی نما کھیت بنائ کر کھیت کی جاتی ہے۔ زمین کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ یہاں کی فصلوں میں چاول، مکا، جوار، آلو، اروی، سترے، کیلے، پیچی، لیمو اور تربوز وغیرہ کی پیداوار عام ہے۔ اس کے علاوہ چھالا بیا اور پان کے باعنجچ بھی لگائے جاتے ہیں۔

صوبے میں کھاسیوں کے اسماں، اسٹھی چھتریاں، قلعوں کے کھنڈرات، پتھروں کے مجسمے قابل دید ہیں۔ یہاں بے شمار ندیاں اور آبشار ہیں جو صوبے کی خوبصورتی کو دو بالا کیے ہوئے ہیں۔ ”ایگل سویٹ“، ”الی فینٹ“ اور ”موسائی“ آبشار مشہور ہیں۔

یہاں کھاسی، گارو اور آسامی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ علاقائی زبانیں بھی ہیں۔ رسالے اور روزنامے بھی شائع ہوتے ہیں۔ یہاں کی دو تھائی آبادی تعلیم یافتہ ہے۔ حکومت ہند نے اس صوبے کی ترقی اور یہاں کے عوام کی فلاج و بہبود کے لیے اسکول، کالج اور اسپتال وغیرہ کھوٹے ہیں تاکہ یہ صوبہ بھی دیگر صوبوں کی طرح مزید ترقی کر سکے۔

مشق

لفظ و معنی

آبشار	:	جھرنا
دعوتِ نظارہ	:	دیکھنے کی دعوت
فتح مند	:	جیتا ہوا
مرطوب	:	گیلانہم
ملکیت	:	جائنداد
قابلِ دید	:	دیکھنے کے لائق
قبیلہ	:	گروہ
دل دادہ	:	شوقيں
نفس	:	نفس کی جمع، رو جیں، ہستیاں، یہاں نفس سے مراد لوگوں سے ہے۔
سرود	:	لغہ، گیت، راگ
وسطی	:	درمیانی
دفاتر	:	دفتر کی جمع، آفس

مانے والا : پیرو
بھلائی، بہتری : فلاج و بہبود

سوالت

- 1 میگھالیہ صوبہ کس طرح تشكیل دیا گیا؟
- 2 میگھالیہ کو خوب صورت صوبہ کیوں کہا گیا ہے؟
- 3 اس صوبہ کا نام میگھالیہ کیوں رکھا گیا؟
- 4 میگھالیہ کی راجدھانی کا نام ”شیلانگ“ کس مناسبت سے ہے؟
- 5 میگھالیہ میں کون کون سے قبیلے آباد ہیں؟
- 6 میگھالیہ کے خاص رسم و رواج کون کون سے ہیں؟

زبان و قواعد

- ☆ ان لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے:
قدیم و جدید رسم و رواج شور و غل خرید و فروخت فلاج و بہبود
- ☆ نیچے لکھے ہوئے جملوں کو صحیح لفظ سے پورا کیجیے:
شیلانگ کو پہاڑوں کی.....کہا جاتا ہے۔ (ملکہ، ندی، رانی)
دنیا کا سب سے زیادہ بارش والا علاقہ..... ہے۔ (شیلانگ، چیراپوٹھی، آسام)
ایک قبیلے کا یہ دستور ہے کہ شادی سے پہلے تمام لڑکے..... نام کے مکان میں رہتے ہیں۔ (ائینٹ، سرحد، نوک پانچھے)
- بہاں کے آدمی باسی کھاسی اور گارو قبیلے کے ہیں۔ یہ لوگ نسلًا منگوں ہیں۔ گول چورہ، چپٹا سر، چوڑی پیشانی، چوڑی ناک، آنکھیں چھوٹی اور رنگ پیلا ہوتا ہے۔
اوپر دی ہوئی عبارت میں سے اسم اور صفت کی نشان دہی کیجیے۔

غور کرنے کی بات

• غور کیجیے کہ میگھالیہ کی تہذیب ملک کے دوسرے صوبوں کی تہذیب سے کس حد تک مختلف ہے۔

یہ سبق ہندوستان کے ایک صوبے میگھالیہ کی مخصوص تہذیب کے بارے میں ہے۔ کسی نظرے یا دنیا کے کسی ملک یا ایک ہی ملک کے کئی حصوں میں رہنے والے لوگوں کی طرز زندگی یعنی ان کی زبان، ان کا رہن سہن، پہناؤے اور رسم و رواج کا نام تہذیب ہے۔ جیسے میگھالیہ ایک صوبہ ہے اور اس صوبے میں کون سی زبان بولی جاتی ہے اور زندگی کے دوسرے کام کس طرح انجام دیے جاتے ہیں۔ اس سبق میں ان جملہ باتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے یعنی میگھالیہ کی تہذیب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔

عملی کام

☆ صوبہ میگھالیہ کی امتیازی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے اپنے دوست کے نام ایک خط لکھیے۔